

قرآنی سافٹ ویرز کا تعارف

مرتب پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین علی

قرآنی سافٹ ویرز کے حوالہ سے ششماہی المیز ان اور علوم القرآن اٹھیا اور بعض دیگر

مجلات سے استفادہ کرتے ہوئے معلومات کو سمجھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔

محمد سعیل پوری لکھتے ہیں قرآنی سافٹ ویرز قدر، کوش، اور نور، یہ تینوں سافٹ ویرز تقریباً

ایک ہی وقت میں شائعین حضرات تک پہنچ اور یہ تینوں، تین شہروں تہران، اصفہان اور قم میں تیار کئے گئے ہلہذا ان کا تقابلی جائزہ اُنکی گہری شاخت میں منور ثابت ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں سافٹ ویرز ایک مقصد کے تحت تیار کئے گئے اور وہ ہے قرآنی محققین کے لئے تحقیقی خدمات مہیا کرنا۔ اس مقابلے کو دھومن میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصہ میں ہر سافٹ ویر سے متعلق معلومات پیش کریں گے اور دوسرے حصے میں ان کا دیقیق تقابلی جائزہ لیں گے۔

سافٹ ویرز "قدر"

اس سافٹ ویر کی تیاری میں ایک سال کا عرصہ لگا اور تمام انتظامی امور سول انتظامیہ کے شعبہ کمپیوٹر نے اپنے ذمہ لئے۔ اس سافٹ ویر کی ابتدائی تیاری قرآنی محققین نے کی اور تذکرہ ادارہ نے فقط انتظامی امور اپنے ذمہ لئے۔ اس سافٹ ویر کی تیاری کا محرك، خصوصاً قرآن سے متعلق نظریہ میں ہے اور قدڑ سافٹ ویر کے مقصد میں اس نظریہ پر بحث کی گئی ہے۔

اس نظریہ میں قرآن میں استعمال شدہ حروف اور کائناتی قوانین و قواعد کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مقام پر چونکہ ہمارا مقصد قرآن کے بارے میں پیش کئے گئے نظریہ کا جائزہ لیتا نہیں ہے لہذا ہم فقط اس سافٹ ویر میں موجود ہولیات کا جائزہ لیں گے۔ اہم قرآنی مباحث جن کی اس سافٹ ویر میں تحقیق ممکن ہے وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ حروف الفباء اور آیات کا ارتباط

۲۔ الفاظ کی اصل کا آیات کے ساتھ رابط

۳۔ الفاظ کا آیات کے ساتھ رابطہ

حروف آیات (اصل الفاظ)

بظاہر ان سافت میں قرآنی پروگرام کے ہنانے والوں کے نظریات کی عکاسی نظر آتی ہے کیونکہ مذکورہ مباحثہ وہی ہیں جو کہ اس پروگرام کو ہنانے والے کی نظر میں ہیں اس سافت ویر کی مرد سے ایک یا زیادہ حروف والی آیات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ حروف ترتیب سے ہوں یا بغیر ترتیب سے انہیں مفہوم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح الفاظ کی اصل کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ آیات جو چند اصل کے اجتماع یا چند اصل کے اشتراک کی حامل ہیں انہیں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جو تحقیقین اصلی حروف اور اصلی الفاظ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں ان کا اس سے بہت زیادہ سروکار ہوتا ہے۔

سافت و نیز کی خوبیاں

☆۔ آیات اور الفاظ کی اصل نیز حروف الفباء اور الفاظ کا آیات کے ساتھ رابطہ، ان سب کا تدقیق جائزہ لینے کا کم سہولت موجود ہے۔

☆۔ سافت و نیز کی قابل قبول تیز رفتاری

☆۔ ہر آیت کے نیچے وضاحتی نوش لکھنے کی سہولت (خصوصاً تحقیقین کے لئے)

سافت و نیز کی خامیاں

☆۔ تعلیمی استقادوں سے عدم توجہ (مثلاً آیات کے ترجمہ کا نہ ہونا)

☆۔ بعض ادبی اخلاقی کی موجودگی۔

☆۔ سافت و نیز استعمال کرنے والوں کے ساتھ آسان رابطہ کی کمی۔

سافت و نیز کی سہولیات کے بہتر ہونے کے باوجود اسٹوں کی تیاری بہتر انداز میں نہیں کی گئی لہذا ان سے آگئی کے لئے کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے کلی طور پر سافت و نیز قدر بہت اہمیت رکھتا ہے۔

قرآنی سافت ویر "نور"

مرکز تحقیقات اسلامی قم نے یہ سافت دوسرے بہت قلیل عرصے میں تیار کیا اس پروگرام کو اُسی پیرائے میں تیار کیا گیا ہے کہ جس میں دوسرے متون روایات جیسے "بخار الانوار" اور وسائل الشیعہ تیار کئے گئے ہیں۔ مرکز تحقیقات اسلامی عصر حاضر میں ملک میں اس طرح کے سافت ویر تیار کرنے والا سب سے بہتر مرکز ہے۔ اس پروگرام کو تیار کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآنی پروگرام ایک سمجھیدہ کوشش نہیں ہے۔ فقط ایک آزمائشی نجخ ہے۔
مفید خوبیوں کا حامل ہے جو درج ذیل ہیں۔

☆ قرآنی آیات میں حروف، الفاظ یا عبارات کو ڈھونڈنے کی سہولت نیز الفاظ کی لشوں اور الفاظ کی اصل کا مختلف ترتیبوں کی بنابر مشاہدے کا امکان۔

☆ قرآن سے متعلق عام اور مقید اطلاعات کا مشاہدہ

(استاد الٰہی قشراہی کا فارسی ترجمہ اور یوسف علی کا انگریزی ترجمہ موجود ہے۔

☆ بعض دیگر امکانات جیسے رنگ اور رسم الخط کی تبدیلی کی سہولت بھی موجود ہے۔

سافت ویر کی خامیاں

☆ ایک اصل کے تحت آنے والی آیات میں غلطیوں کا وجود۔

مثال کے طور "قلل" کے مشتقات کے ساتھ ہی "قول" کے مشتقات بھی دکھائی دیتے ہیں۔

تیان نمبر ۲ میں استعمال کئے گئے بہتر طریقوں سے عدم استفادہ مثلاً تحقیقاتی متن تجھ کی فائل بندی، متن آیات سے متعلقہ متن کا انتخاب۔

قرآنی سافت ویر "کوثر"

یہ سافت ویر ادارہ "مکتب فردہ" اصفہان نے تیار کیا ہے۔ "کوثر" سافت ویر اڑھائی سال میں تیار ہوا اور دس افراد نے اس کی تیاری میں حصہ لیا۔ اس سافت ویر کا اصلی مقصد قرآنی

تحقیقات کے لئے سہولیات کا مہیا کرنا اور فرعی مقصد تمام افراد کو آموزش کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ کوثر، پریلا سافٹ دیر ہے جو سکھانے کی سہولت مہیا کرتا ہے اگرچہ یہ ایک آئینہ میں کام نہیں ہے بھر بھی قابل تعمیں ہے۔

سافٹ ویر کی خوبیاں

☆ ہر آیت کے نیچے اس کا فارسی ترجمہ موجود ہے۔

☆ ترجمہ آیات کے علاوہ ہر اصطلاح کا علیحدہ سے ترجمہ بھی موجود ہے۔

☆ قرآنی الفاظ کا حرفی خصوصیات کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔

☆ حرفی الفاظ، مکمل الفاظ، آیات اور حتیٰ کہ سورتوں کو دوبارہ ذخیرہ کرنا اور دوبارہ پانی تینی

Shedہ الفاظ کو Delete Restore کرنا۔

☆ حذف شدہ الفاظ کا دوبارہ قابل مشاہدہ ہوتا۔

☆ محقق ہر گروہ میں، اس کے معنی کے پیش نظر دخل دے سکتا ہے؟

☆ الفاظ آیات اور سورتوں کا باہمی تبادلہ۔ مثلاً صرفی کلمہ کے کسی گروہ کی موجودگی میں اس

سے متعلق آیات کے گروہ کی تیاری یا اس کے بر عکس۔

☆ ہر گروہ کے اعداد و شمار کی لست کے حصول کا امکان۔

☆ قرآن کے موضوعی اور معنوی امور سے متعلق امکانات کی موجودگی۔

☆ موضوعی کام کے عناصر، الفاظ، آیات اور سورتیں ہو سکتیں ہیں۔

قارئین کی سہولت کے لئے کوثر کی رہنمائی کا سچھ حصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

”کوثر“ پروگرام کے مقاصد اور قابلیتوں کا تعارف

”کوثر“ نے قرآن حکیم پر تحقیق اور مطالعہ سے متعلق مفید سہولیات فراہم کی ہیں۔ ان

سہولیات سے تحقیقی امور کے علاوہ تعلیمی امور میں بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

اقرآن کی خصوصیات، جو ”کوثر“ پروگرام کے توسط سے قابل مطالعہ ہیں وہ درج ذیل

ہیں۔ (الف) حروف الغبا (ب) صرفی الفاظ (ج) کامل الفاظ (د) آیات (ھ) سورتیں (و) موضوعات قرآن۔ قرآن کے الفاظی حروف سے متعلق مطالعہ اور تحقیق زیادہ تر اعداد و شمار کا مطالعہ، زبان شناسی اور ادبیات کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دیگر عناوین اور اعداد و شمار کا مطالعہ، زبان تحقیقات کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔

قرآن سے متعلق دیگر سافٹ ویرز میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر آیات میں تحقیق کے لئے مفید ہیں؛ کوثر، پروگرام میں قرآنی آیات پر تحقیق کیلئے بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں اس کے علاوہ صرفی الفاظ، کامل الفاظ اور قرآنی سورتوں پر بھی مستقل طور پر تحقیق کی جاسکتی ہے۔

”کوثر“ سے استفادہ کرنے والوں کو چاہیئے کہ وہ صرفی اور کامل الفاظ سے متعلق فائز کے اختاب میں وقت نظر سے کام لیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاص شرائط کے تحت مفید ہیں الفاظ پر تحقیق کرتے وقت اگر لفظ کا خاص معنی ہمیشہ سیاق و سباق کے آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے تو اس وقت صرفی کے ساتھ کام کرنا چاہیئے لیکن اگر لفظ اور ایک اصل کی ترکیب سیاق و سباق کے ساتھ اہمیت رکھتی ہے تو کامل الفاظ کے ساتھ کام کرنا چاہیئے۔

صرفی الفاظ پر تحقیق کے اختاب کے ساتھ، متعلقہ لفظ کا ترجمہ، اصل لفظ اور دیگر بہت ساری صرفی خصوصیات سے متعلق تحقیق کی سہولت بھی موجود ہے۔ صرفی الفاظ پر اعراب لگھے ہوتے ہیں۔ مثلاً گھَبَ۔ گھِبَ۔ وہ الفاظ جن کے اعراب ایک جیسے ہیں لیکن معانی میں فرق ہے انہیں بھی ایک دوسرے سے واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً میں بمعنی آنکھ اور میں بمعنی چشم۔ اس پروگرام کی ایک اہم خصوصیت صرفی الفاظ، کامل الفاظ اور آیات و سورتوں کے مختلف حصوں کا آپس میں ارتباط ہے۔ مذکورہ تمام عناوین کے لئے دو سہولیات موجود ہیں۔ ایک تو ان کا ڈھونڈنا اور دوسرے ان کے کسی ایک گروہ پر عمل انجام دینا۔ گروہ، عنصر (صرفی الفاظ، کامل الفاظ اور آیات و سورتیں) کے اس

محمد کو کہتے ہیں جو ایک نام سے Store کئے جاتے ہیں تاکہ بعد والے اعمال کو اس پر انجام دیا جاسکے۔ مثال:- تمام صرفی الفاظ جو ”اسم فاعل“ ہیں کو ڈھونڈ کر انہیں ایک نام کے تحت محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس صرفی گروہ پر مختلف تحقیقی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ان کا کسی دوسرے گروہ کے ساتھ تقابل کیا جاسکتا ہے۔ یا ان کا پرنٹ لیا جاسکتا ہے ان آیات کو سکرین پر دیکھا جاسکتا ہے کہ جن میں یہ لفظ موجود ہو۔

اسی طرح کامل الفاظ کے ایک گروہ کو دیکھا جاسکتا ہے اور ضرورت کے وقت ان الفاظ والی آیات کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ آیات اور سورتوں کے درمیان میں بھی اس ارتباط کی وضاحت کی گئی ہے۔

پس ”کوثر“ سے استفادہ کرنے والا نہ صرف یہ کہ صرفی الفاظ، کامل الفاظ آیات اور سورتوں کے اندر اپنے تحقیقاتی تباخ کو محفوظ کر سکتا ہے بلکہ انہیں کسی دوسری جگہ پر منتقل بھی کر سکتا ہے۔ رابطوں کا مکمل ادراک کا باعث بنتا ہے کہ قرآن کریم سے متعلق تحقیقات بہت اچھے انداز میں انجام دی جاسکیں اور ان کے تباخ مختلف شکلوں میں قابل استفادہ بنا کیں جاسکیں۔

- (۱) عناصر کا با واسطہ انتخاب اور انہیں ایک گروہ کے تحت محفوظ کرنا
 - (۲) ظاہری خصوصیات کی مدد سے عناصر کی تلاش کا طریقہ کار
 - (۳) ہمسایہ گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو پیدا کرنا
- پہلا طریقہ (با واسطہ انتخاب) ان مواقع پر کام آتا ہے کہ جہاں ظاہری خصوصیات سے مدد لیا جائے۔

مثال:- اگر ہم زراعت سے متعلق الفاظ کو قرآن سے استخراج کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ کے ظواہر سے استفادہ لازمی ہے لہذا مستقیماً ان الفاظ کو مشخص کر کے گروہ کے عنوان سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا طریقہ (تلash) اس وقت قابل استفادہ ہے کہ جب ظاہری یا ادبی خصوصیات جو صرفی الفاظ میں مذکور ہیں میں سے کسی ایک خصوصیت کی مدد سے عنصر کے ایک مجموعہ کو میں کردار یا جائے۔

تیسرا طریقہ گروہ کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ پر منتقل کرنا ہے۔ مثلاً اگر رسول اور نبی کے الفاظ کا ملک الفاظ والے گروہ میں شامل ہوں تو یہ گروہ میں شامل ہوں تو یہ گروہ آیات والے مقام پر ان دو الفاظ والی تمام آیات کو ظاہر کرے گا۔ تیسرا طریقہ سے استفادہ کے لئے یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ صرفی الفاظ اور کامل الفاظ کا خانہ سب سے چھوٹا خانہ ہے بس اس کے بعد آیت واقع ہے اور سب سے بڑا خانہ سورہ کا ہے ایک چھوٹے گروہ کی تصویر بندی کے لئے، بڑے گروہ میں متعلقہ گروہ کے اعمال کیلئے ضروری احکامات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

لیکن بڑے گروہ کو چھوٹے گروہ میں معکوس کرنے کے لئے پہلے اصلی متن کی حدود و قیود کو بڑے گروہ کے مطابق منظم کیا جاتا ہے پھر چھوٹے خانوں کو اصلی متن کی حدود و قیود میں متعین کیا جاتا ہے۔

الفاظ کے معانی میں تحقیق کرنے کی صلاحیت

واضح ہے کہ کمپیوٹر معانی تک مستقیماً دسترس نہیں رکھتا بلکہ صرف الفاظ کے ظواہر پر اعمال انجام دیتا ہے۔ لیکن ہمیں زیادہ ضرورت معانی پر عمل انجام نہیں کی ہوتی ہے۔ مثلاً الفاظ (شجر، نبات، زرع) ظاہر ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے مگر معنی کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق مضبوط ہے۔

الفاظ، آیات یا سورتوں کے درمیان معانی کے ارتباط کو کمپیوٹر کے لئے کس طرح واضح کیا جاسکتا ہے؟ یہ کام خاص طبقہ بندی کے ذریعے سے ممکن ہے، کمپیوٹر کو دی جاتی ہے۔ الفاظ کے ایک گروہ کو وجود میں لا کر ان الفاظ کے معانی کی باہمی وابستگی کو کمپیوٹر پر ورام سسٹم میں فائدہ کیا جاسکتا ہے۔

علاوه ازیں ضرورت کے پیش نظر مجموعہ الفاظ کو خاص موضوع سے مر بوط یا جا سکتا ہے۔ (یہ موضوع خود ایک نظوظ بھی ہو سکتا ہے) اسی سے ملتی جلتی روشن آیات اور سورتوں کے لئے بھی بنا لی گئی ہے۔

لہذا ہم الفاظ، آیات اور سورتوں کی سسم کے مطابق، طبقہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس روشن کے ذریعے سے جو کہ نسبتاً سادہ و روشن ہے۔ قرآن کے معانی کی پہچان کے لئے ہم مختلف انواع کے خاکے بنا سکتے ہیں۔ درج بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معانی کو فیض کرنے کے لئے مواد کپیوڑ سے استفادہ کرنے والوں کے ذریعے سے ہی فیض کیا جائے گا۔

لہذا ضروری ہے کہ مفردات اولیہ کو وقت کے ساتھ متغیر کیا جائے اور پھر "کوثر" نے معانی کی تحقیق کے لئے جو سہولیات مہیا کر رکھی ہیں ان سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے۔ اسی صورت میں درست نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔

اکثر موقع پر بہتر تحقیق کے دو درجے ہوتے ہیں ایک الفاظ کا اور دوسرا معانی کا۔ "کوثر" پر و گرام دونوں کے امکانات فراہم کرتا ہے۔

کوثر کی تعلیمی خوبیاں:

۱ قرآن میں موجود تمام اسماء اور افعال کا ترجمہ موجود ہے۔

۲ تمام اسماء و افعال کی صرفی خصوصیات نیز لفظ کی اصل اور نوع اور دیگر صرفی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

۳ صرفی خصوصیات پر مشتمل کرنے اور امتحان لینے کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔

۴ تمام اسماء و افعال کے ترجمے کی مشتمل کرنے اور امتحان لینے کا امکان موجود ہے۔

۵ علم صرف کی تعریفیں رہنمائی میں موجود ہیں۔

۶ امتحانی نقطہ نظر سے آیات کے حوالے نیت لینے اور مشتمل کرنے کی سہولت موجود ہے۔

۷ عربی زبان سکھانے کے پیش نظر آیات کا ترجمہ سطر پر سطر دیا گیا ہے۔

8 طریقہ سطر موجود آیات کے ترجمہ سے مشق کرنے اور امتحان لینے کی سہولت موجود ہے۔

9 خاص تعلیمی مقاصد کے تحت الفاظ، آیات اور سورتوں کی گروہ بندی کی گئی ہے۔

صرفی الفاظ والے حصے کی رہنمائی

اس حصے والی سہولیات سے استفادہ کرتے ہوئے ادبی اور معنوی میدانوں میں تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اس حصے کی سہولیات زبان شناسی اور علوم قرآن کی تحقیق اور تعلیم کے لئے بہت مفید ہیں۔

صرفی الفاظ سے متعلق درج ذیل اطلاعات حاصل کی جاسکتی ہیں: (۱) لفظ کی اصل (۲) لفظ کی ادبی خصوصیات (۳) لفظ کا ترجمہ (۴) آیات کے متن میں صرفی ایڈریس۔

کلی طور پر اس حصہ کو اس طرح تیار کیا گی ہے کہ تحقیق یا تعلیم کے عمل کو مختلف شکلوں میں منظم کیا جاسکتا ہے۔ آپ ایک صرفی لفظ کی موجودگی میں اس کے مشخصات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ نیز ایک یا چند ادبی مشخصات یا اصل کی موجودگی میں تمام متعلقہ صرفی الفاظ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ صرفی لفظ کے انتخاب کے بعد آپ آیات میں اس کی متعلقہ جگہ (ایڈریس) بھی معلوم کر سکتے ہیں۔

صرفی الفاظ کے ایک مجموعہ کو ایک گروہ کے عنوان سے اور ایک نام کے تحت ذخیرہ کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ یہ کام اس صورت میں مفید ہے کہ جب آپ الفاظ کے اس مجموعہ کو بعد والی تحقیقات کے لئے محفوظ رکھنا چاہیں۔ صرفی الفاظ کے ہر گروہ پر مختلف تحقیقی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے "صرفی الفاظ کے گروہوں پر کام کا حصہ نظر کھا گیا" ہے۔ صرفی لفظ سے متعلق کامل الفاظ کی دستیابی بھی اس حصے میں عمل میں آتی ہے۔

حدود آیات کے ذریعے لفظ کی دستیابی

بعض تحقیقاتی امور بجا لانے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے محدود الفاظ بعنوان

ایک گروہ معین کئے جائیں۔ مثلاً اگر ہم حروف مقطعات والی سورتوں پر تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ان سورتوں کا گروہ بنایا جائے گا پھر آیات کی حدود کو اس گروہ پر منظم کریں گے۔ اس فرمان کے ذریعے تمام الفاظ کو بغیر تکرار کے اخراج کریں گے اور پسندیدہ نام رکھیں گے۔ متن کے کسی ایک حصہ سے متعلق تحقیق پر مبنی گروہ، اعدادی گروہ کے نام سے ذخیرہ کر لیں گے۔ یہ گروہ الفاظ کی متعلقہ تکرار کے اعداد و شمار کی بازیابی کیلئے دوبارہ دکھائے جاتے ہیں۔ ہر گروہ کو بنانے، چھاپنے اور منطقی اعمال کے لئے کافی سہولیات ہیں۔

”متن آیات میں صرفی لفظ کی جگہ“ والے حصے کا تعارف

اس حصے کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرفی لفظ والی آیات جو آپ چاہتے ہیں، انہیں تلاش کرے۔ اس حصے کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ چند مختلف اعراب کے ساتھ قرآن میں موجود ہو تو یا تو اعراب ثابت ہوں لیکن چند معانی کے ساتھ قرآن میں آیا ہو تو اس کے مختلف حالات قبل مشاہدہ ہیں۔ بنا بریں آپ کسی خاص خصوصیت یا معنی والے صرفی لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دیگر قرآن سافت ویریز میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی ہے۔

الفاظ کامل والے حصے کا تعارف

قرآن کے کامل الفاظ ایک یا چند صرفی الفاظ کی ترکیب سے تخلیل پاتے ہیں اور خود کامل لفظ آیات قرآن کو تخلیل دیتا ہے۔ ایک کامل لفظ ظاہراً کامل طور پر مستقل لفظ ہے اور اپنے سے پہلے یا بعد والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر تمام الفاظ کے درمیان ایک قاصد موجود ہوتا ہے۔ کامل الفاظ پر تحقیق درج ذیل شرائط میں مفید ہے۔

۱۔ جب صرف الفاظ کے ظاہر کی اہمیت ہو۔

۲۔ جب اطمینان ہو کہ متعلقہ لفظ فقط ایک معنی رکھتا ہے یا یہ کہ تعدد معنی کا حاصل ہے۔

تحقیقی تجہیز کوئی لفظان نہ پہنچائے گا۔

”کوثر“ پروگرام کا یہ حصہ تحقیق کے لئے درج ذیل سہولیات فراہم کرتا ہے۔

(۱) ان الفاظ کا ایک گروہ بنانا جو بعض آیات کے تمام الفاظ پر مشتمل ہوں یہ آیات انتخابی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک سورہ سے چند آیات، ایک سورہ سے تمام آیات، تمام قرآن یا حتیٰ کر ایک خاص گروہ آیات ہو۔ اس سے متعلق تمام ضروری اعدادی اطلاعات دسترس میں ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ منتخب الفاظ کے ایک گروہ سے جدید گروہ کو بنانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس طرح ایک خاص مفہوم والے الفاظ کے گروہ کا اختراع، نامگواری اور ذخیرہ ممکن ہے۔

۳۔ خاص ظاہری خصوصیت والے الفاظ کی تلاش کی سہولت مثلاً وہ الفاظ جو خاص حرف کے ساتھ روع ہوتے ہیں وہ الفاظ جو خاص یا حرف کے حامل ہوتے ہیں۔

۴۔ الفاظ کے گروہوں پر مختلف اعمال انجام دینے کا امکان

مثلاً ان کا ادغام، مشترکات کی شاخت اور ان کا بھی تقابل، اسی طرح ایک گروہ میں موجود الفاظ کو اپنی مرضی کے مطابق مرتب کرنا۔ قرآن سے متعلق تحقیقاتی پروگراموں کے لئے بھی اس حصہ سے مکثر استفادہ کیا جاسکتا ہے قرآن کی زبان سے آشنای حاصل کرنے کے لئے بھی اس حصے کی سہولیات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ معنوی نکات پر توجہ دینے اور الفاظ کی ساختی کے لئے بھی مفید ہے۔

موضوعاتی فہرست سے متعلق تحقیق والے حصے سے آشنای۔ اس حصے کی مدد سے قرآن کریم کی معنوی طبقہ بندیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور انہیں منظم کر سکتے ہیں۔ اس طبقہ بندی کا موضوع صرف الفاظ، کامل الفاظ، آیات اور سورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ طبقہ بندی درخت کی شکل میں ہے۔ چونکہ ایک جز ہے اور چند شاخص اور ہرشاخ خرید فرعی شاخص بن سکتی ہیں اور یہ مزید سمات مسلسلوں تک بڑھ سکتا ہے، ہرشاخ سے حد اکثر ۹ شاخص بن سکتی ہیں۔

ان طبقہ بندیوں کو آپ بھی ”موضوعات کی درختی شکل“ کے حصے میں الفاظ، آیات اور سورتوں میں منظماً کر سکتے ہیں۔

تمام موضوعاتی پیمانے کے بر، موضوع لے تخت لامحمد و اطل.. تی عنصر ہوتے ہیں۔

یہ عناصر صرفی لفظ، کامل لفظ، آیات یا سورتیں ہو سکتی ہیں بالفاظ دیگر آیات یا سورتوں کا ایک گروہ ایک موضوع سے متعلق ہو سکتا ہے پس ایک موضوع، فرعی موضوعات کے علاوہ اطلاعاتی عناصر کے ایک گروہ سے بھی مریبوط ہو سکتا ہے۔ یہ ارتباط، گروہ کے نام اور اس کے عنوان کی اس چیزیں میں موقعت کے قوسم سے کپیوٹر کے لئے قابل تفہیم ہے۔

۲۔ نئے قرآنی سوفت ویریز کا تعارف

سید امیاز علی لکھتے ہیں کپیوٹر نے تحقیقی کاموں میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور انہیں ایک نیا روند دیا ہے تحقیقاتی کاموں کے لیے اس وقت ہزاروں سوفت ویریز مارکیٹ میں موجود ہیں، جہاں دوسرے لوگ علمی تحقیقات میں کپیوٹر سے مدد لے رہے ہیں وہاں اسلام اور قرآن کے علوم کے بارے میں تحقیقات کے لیے بھی کپیوٹر سے استفادہ کیا جا رہا ہے اگرچہ دوسرے علوم کی نسبت ابھی قرآن کے خواں سے کپیوٹر کے خواں سے متعلق کام کم ہوا ہے لیکن جس اندازے سے اس سمت کام بڑھ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ نزدیک اس تھمن میں خاطر خواہ تبدیلی آئے گی اس ضمن میں ہم قرآن کے خواں سے بنائے گئے سوفت ویریز کا ایک تعارف پیش کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ سوفت ویریز قرآن پر کام کرنے والے محققین کے لیے سودمند ثابت ہوں گے۔

(۱) اسلامیکا:

یہ اسلام سے متعلق پہلا اردو ڈائیا نیک کپیوٹر سافت ویر ہے جو پہلے ”نور الہدی“ کے نام سے مارکیٹ میں آیا تھا۔ یہ سوفت ویر ایک CD-ROM (سی ڈی روم) پر دستیاب ہے اس میں قرآن کریم کے چار اردو اور دو انگلش تراجم شامل ہیں۔ جناب قاری فہیم، مولانا شفیع، احمد رضا خان بریلوی اور جناب ابو منصور کے اردو تراجم کے علاوہ عبد اللہ یوسف علی اور پیکھال (Pickthal) کے انگریزی تراجم اسلامیکا کی زینت ہیں، اس پروگرام میں عربی پڑھنے کی الہیت نہ رکھنے والے ایسے افراد جو انگریزی رسم الخط سے آشنا ہیں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ قرآن کی عربی عبارت کو انگلش رسم الخط میں پڑھ سکتے ہیں اس پروگرام میں یہ سہولت ہے کہ آپ ایک وقت میں دو

Windows کھول سکتے ہیں اس ذریعہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی سے دو ترجمے بیک وقت کمپیوٹر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اور ان دونوں کے درمیان موازنہ کریں۔ اسلامیکا میں ایک قرآنی لغت بھی موجود ہے جس میں قرآن کے ہر عربی الفاظ اور اس کا اردو ترجمہ درج ہے، قرآنی الفاظ کے ان تراجم کو عربی اردو کی اہم مشہور لغات سے لیا گیا ہے قرآن کے علاوہ اس پروگرام میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کے اردو تراجم بھی ہیں چونکہ یہ پروگرام اردو کا ایک مکمل ذیثاب میں ہے اس لیے اس میں قرآن و حدیث کی ان کتابوں کے علاوہ سیرت نبوی، اصحاب نبی اور محدثین کے حالات زندگی سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں اس پروگرام میں مسلمان صوفیا اور اولیاء کرام کا بھی ذکر موجود ہے، نیز اسلامی ممالک کا تعارف بھی شامل ہے یہ پروگرام انعام علوی کمپیوٹر نے تیار کیا ہے جو ایک ایسی پاکستانی کمپنی ہے جس کا مرکز کینیڈا میں ہے۔

(۲) حدی

یہ پروگرام Windows پر چلتا ہے اور خالص قرآنی پروگرام ہے اس میں پورے قرآن کا اصلی عربی متن اعرب کے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں مکمل قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی شامل ہے ایک مشہور بین الاقوای قاری جناب "پرہیز گار" نے نہایت خوبصورت آواز میں اس پروگرام میں تلاوت کی ہے۔

"حدی" میں ۲۰۰۰۰ ہزار سے زیادہ ایسے قرآنی موضوعات درج ذیل ہیں کہ ان میں سے ہر ایک موضوع سے متعلق آیات کو ترتیب والکھا گیا ہے یہ موضوعات الف، با کے اعتبار سے درج کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے متعلقہ موضوع کو با آسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے موضوعات کے تحت قرآنی آیات کی تلاش کے علاوہ قرآن کے عربی یا انگریزی الفاظ کو بھی با آسانی تلاش کیا جاسکتا ہے، اس پر گرام میں جناب عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمے کو شامل کیا گیا ہے۔

یہ پروگرام Windows 95 کے علاوہ Windows 3.1 سے بھی سازگار

(Compatible) ہے یہ پروگرام انگریزی کے علاوہ اردو، فارسی، بوسنیائی، هر قبیل، جرمن اور بھگالی زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ یہ پروگرام دینی کی ایک کمپنی طلوع کمپیوٹرز نے تیار کیا ہے۔

(۳) نور

یہ پروگرام بھی ایک سی ڈی روم میں دستیاب ہے، اس پروگرام میں قرآن کے عربی متن کے علاوہ حدیث کی کچھ بنیادی کتب بھی موجود ہیں قرآنی الفاظ، کلمات محلات اور آیات نہایت مرعut کے ساتھ تلاش کرنے کی صلاحیت اس پروگرام کا خاصہ ہے اس پروگرام میں تقریباً اس کھنکی کی قرآنی تلاوت باصوت موجود ہے اس پروگرام میں تلاوت قاری عبد الباسط، مصطفیٰ اسماعیل، منشاوی اور بدوسی جیسے شہر آفاق قاریوں کی آواز میں موجود ہے۔ یہ پروگرام مرکز تحقیقات کمپیوٹری علوم اسلامی قم ایران نے ترتیب دیا ہے۔

(۴) القرآن الحکیم

ایک سی ڈی روم پر یہ پروگرام پاکستانی مارکیٹ میں دفعہ پیمانے پر دستیاب ہے۔ Windows پر چلنے والا یہ پروگرام مصر کی ایک کمپنی SAKHAR (صحرا) کمپیوٹرز نے ترتیب دیا ہے، قرآن کا اصلی متن اس پروگرام میں نہایت خوبصورت رسم الخط میں موجود ہے قرآنی الفاظ، آیات اور موضوعات کی تلاش کی سہولت اس پروگرام میں موجود ہے اس پروگرام میں ابن کثیر کی عربی تفسیر قرآن بھی موجود ہے تیز ہر قرآنی لفظ کی عربی وضاحت بھی کی گئی ہے۔

(۵) عالم

بین الاقوامی سٹل پر سب سے زیادہ مشہور اور مفید اسلامک سوف ویر ہے اس میں انگلین قرآنی متن کے علاوہ تیس کی تلاوت بھی موجود ہے انگریزی ترجمہ میں عبد اللہ یوسف علی اور پکھوال کے انگریزی ترجمہ بھی شامل ہیں تقریباً ۲۰۰۰ موضوعاتی فہرست بھی اسی پروگرام کی زیست ہے، اس پروگرام میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، الترمذی ابو داؤد کی کتب احادیث کے انگریزی ترجمہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ صحیح بخاری کی موضوعاتی فہرست بھی درج ہے جو حوالہ کے لیے نہایت مفید ہے

چند فہمی کتابیں بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، امام مالک کی الموطاء اور فرقہ النہ م موضوعاتی فہرست کے ساتھ موجود ہے چونکہ یہ پروگرام زیادہ تمغرب کے نسلیوں کے پیش نظر کہ کر تیار کیا گیا ہے لہذا اس میں انگریزی زبان میں اسلام کے تعارف اور تعلیمات سے متعلق چند ضروری کتب کے علاوہ اسلام کی نامور شخصیات کی سوانح حیات بھی درج ہے، اسلامی تاریخ اور اسلامی اصطلاحات کی لغت بھی شامل کی گئی ہیں۔

(۶) اردو قرآن

تمنی ڈی روم پر مشتمل یہ پروگرام پاکستان کی مارکیٹ میں عام دستیاب ہے اس پروگرام میں اعرابی کے ساتھ قرآن کا مکمل متن موجود ہے اس کے علاوہ تمنی انگریزی زبان میں عبد الباسط، یوسف علی، پکھوال، شاکر کے تراجم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عربی متن کو انگریزی رسم الخط میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ عربی زبان سے ناواقت شخص قرآن کو عربی تلفظ میں پڑھ سکے قاری عبد الباسط اور قاری حوسری کی مکمل تلاوت قرآن بھی اس میں شامل ہے انگریزی کے علاوہ جیتنی، اردو، ملائی، اندونیشیائی، ترکی زبانوں میں قرآن کے تراجم بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔

(۷) تجوید القرآن و یہ سائنس

بیسویں صدی کی آخری دھائی کی ایجاد انٹرنیٹ تمام شعبہ ہائے حیات پر تیزی سے چھائے چلی جا رہی ہے اور اس بات کا روشن امکان ہے کہ تنی صدی میں انٹرنیٹ کو انسانی ضروریات میں شمار کیا جانے لگے گا۔ علوم القرآن کی تدریس و تبلیغ کے لیے بھی انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم تجوید القرآن کے لیے بنائی گئی ایک ویب سائنس کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اس سائنس پر جانے کے لیے آپ پہلے "المیران" کی سائنس پر جائیں جس کا ایڈریس "QURANIC WORLD OF INTERNET" کے ذریعے تجوید القرآن کی سائنس نمبر ۲ پر تشریف لے جائیں۔ اس طرح تجوید القرآن کی ویب سائنس کھل جائے گی اور ایک ویب چیج نمایاں ہو جائے

اس ویب سائچ پر آپ کو درج ذیل Options نظر آئیں گی۔

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| ۱. المقدمہ | ۲. قریہ التجوید | ۳. کوخ الزوار |
| ۴. اخبار القریۃ | ۵. مخارج الحروف | ۶. المیم الساکنة |
| ۷. النون الساکنة والتنوین | ۸. النون والمیم المستبدین | ۹. المدود |

ان نویں Options میں سے آخری پانچ تو خالص تجویدی قواعد و ضوابط اور ان کی مثالوں سے متعلق ہیں جن میں سے چند ایک کا ہم جائزہ لیں گے جبکہ بھلی چار تجویدی کی اہمیت، پروگرام کے تعارف، اور اس سائٹ پر آنے والوں کے تعارف سے متعلق ہیں۔ اگر ہم "المقدمة" کی Options کا اختیار کریں تو ہمیں "علم التجوید" سے متعلق ابتدائی معلومات مل جائیں گی البتہ یہ سائٹ سب کی سب عربی زبان میں ہے۔ لہذا جو تن بھی یہاں تحریر ہو گا عربی ہی میں تحریر ہو گا۔ "قریۃ التجوید" کی Options اختیار کرنے کی صورت میں تجوید کی اہمیت پر ایک صفحہ نمایاں ہو جائیگا۔ "کوخ الزوار" مخصوص اس ویب سائٹ پر آنے والوں کے اظہار خیال کے لیے۔ اس سائٹ کے بارے میں اپنی تجویز اور اپنی رائے آپ "کوخ الزوار" کی Options اختیار کر کے اپنی رائے ریکارڈ کرو سکتے ہیں۔ "اخبار القریۃ" میں ویب سائٹ میں آئندہ نئے اضافات سے متعلق معلومات درج ہوں گی۔

تجوید کے مختلف ابواب کے لیے علیحدہ سے Options موجود ہیں مثلاً اگر آپ "النون الساکنة والتنوین" کی Options اختیار کریں تو کمپیوٹر کے نائٹر پرنی شکل نمایاں ہو جائے گی جس میں ظاہر کیا گیا ہے کونون الساکنة اور تنوین کے چار احکام ہیں جو کہ:

۱. الاظہار
۲. الادغام
۳. الاخفاء
۴. الاقلاب

ہیں۔ ان چاروں احکام میں سے ہم "ادغام" کا Option اختیار کریں تو نئی شکل نمایاں ہو جائے گی۔

اس صفحہ پر ادغام کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ان حروف کی فہرست موجود ہے۔ اس میں ادغام کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے ہیں۔ ان دونوں اقسام کی مثالیں ملاحظہ کرنے کے لیے ہمیں ان میں سے کسی ایک کاماؤس کے ذریعے انتخاب کرنا ہو گا۔

تجوید القرآن کی اس ویب سائٹ کی سب سے اہم خصوصیت وہ مثالیں ہیں جو بہترین بات کے ساتھ دی گئی ہیں۔ ان مثالوں میں آیات کی مکمل تلاوت کی جاتی ہے اور ہر باب کے حکم کو اس ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے۔

بغیر غنہ کے ادغام سے متعلق قرآنی آیات کی مثالیں درج ہیں اور ادغام کی جگہ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ جب ان آیات میں سے کسی ایک کمپیوٹر ماؤس کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے تو اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے یوں ”ادغام بلا غنہ“ کی عملی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح شکل نمبر ۲ میں نون تندہ کے حکم کو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔

(۸) قرآنی پروگرام تھائی لینڈ

ریاض میں فروری گزشتہ شام تھائی لینڈ کے سفیر برائے سعودی عرب کی رہائش گاہ پر ایک جدید کمپیوٹر کے ذریعہ قرآنی آیات کو دکھایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے سفارتی نمائندوں کے علاوہ تھائی لینڈ کے باشندے موجود تھے۔ موجودہ کمپیوٹر جناب حمید سیام والا کی ایجاد ہے جو بکاک میں قائم اسلامک سولشن اینڈ اکونا کے ڈیلوپمنٹ فاؤنڈیشن آف تھائی لینڈ کے ایک ڈائرکٹر بھی ہیں، اس تنظیم کا مقصد تھائی مسلمانوں میں اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت ہے و واضح رہے کہ مسلمان تھائی لینڈ کی ۵۲ ملین آبادی کا دسوال حصہ ہیں۔

جناب حمید ان دونوں سعودی عرب کے پانچ روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے دولتی کمپیوٹر (عربی، انگریزی) کا تعارف کرائیں اور اس ملک میں ایک بڑے پلانٹ کے لگانے کے سلسلے میں تعاون حاصل کر سکیں۔ وہ شاہ فہد کی اسلامی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کی خدمت میں یہ کمپیوٹر پیش کریں گے۔ دوسرے حضرات جنہیں یہ کمپیوٹر پیش کیا جائے گا ان میں

تحالیٰ لینڈ کے شاہ اور بحرین کے شیخ عیسیٰ بن سلیمان الحکیمہ شامل ہیں۔

کپیوٹر انرڈر قرآن کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے جن کی تجھیں میں چار سال صرف ہوئے جناب حید نے کہا کہ کپیوٹر کسی بھی قرآنی آیت کو عربی یا انگلش میں اس کے معانی کے ساتھ اسکرین پر لاسکتا ہے، اسی طرح سے اگر دیکھنے والا سورہ کا تاریخی پس منظر یا آیت کی تشریع چاہتا ہے تو اس طرح کی معلومات بھی مطلوبہ پڑھن کو دبا کر حاصل کی جاسکتی ہیں جناب حید نے مزید بتایا کہ کپیوٹر نہ صرف یہ کہ قرآنی آیات پیش کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آیات کے صحیح تلفظ کی بھی وضاحت کرتا ہے اس طور سے یہ کپیوٹر تحالیٰ لینڈ میں جہاں دینی علماء کی کمی ہے ایک ٹیچر گا مدد کا کام کرتا ہے۔

یہ ریسرچ اسکالرس اور محققین کے لئے بھی بہترین راہنماء ہے۔ مثال کے طور اگر آپ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں تو اس طرح کی تمام متعلقہ معلومات فوراً اسکرین پر کھائی جاسکتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی نویسیت کا دنیا میں پہلا کپیوٹر ہے۔

قرآن کے اس پہلو کو لیتے ہوئے جس میں مسلمانوں کو حصول علم پر ابھارا گیا ہے جناب حید نے یہ پروجکٹ شروع کیا ہے تا کہ قرآن کو بہتر طور سمجھنے کے لئے اعلیٰ تکنالوجی کے فوائد کو مسلمانوں کی دسترس نہ کرایا جاسکے۔ اس عظیم کام کی ابتداء اس وقت ہوئی جب تحالیٰ لینڈ کے شاہ نے عربی، تحالیٰ کپیوٹر انرڈر ترجمہ قرآن کے منصوبہ کے لئے فندہ فراہم کیا اس کے بعد دوسرے منصوبوں کا ایک سلسہ شروع ہو گیا۔ عربی۔ جاوی ترجمہ کے لئے ملیشیا کے وزیر اعظم اور اردو۔ عربی ترجمہ کے لئے صدر پاکستان صیاد الحق شکریہ کے مستحق ہیں جن کی توجہ سے یہ کام انجام پاسکا۔ عربی متن شیخ محفوظ کی تشریع کے ساتھ ہے۔ جبکہ انگریزی اور اردو کے متن عبد اللہ یوسف علی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تفاسیر سے مانوذ ہیں۔ (علوم القرآن علیگزہ جنوری تاجون ۱۹۸۶ء، بحوالہ دی عرب شوز، جدہ، دو شنبہ، ۳ فروری ۱۹۸۲ء)

(۹) ویب سائٹ سے قرآن پڑھنا و سمجھنا سیکھئے

اب آپ کو ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر 5 یا اس نے اوپر کا وزن اور کمپیوٹر کے ساتھ اپنکرچا ہے۔ سائٹ کا پتہ ہے

www.understandquran.com

آتے ان کے لئے بھی یہ کورس ہے اور جو حروف جانتے ہیں وہ انگریزی، اردو، ہندی، ملیالم، تامل، یا بوشنیں زبانوں کے ذریعہ سے قرآنی عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ ویدیو، پاور پوائنٹ، آڈیو، پی ڈی ایف فائل، اور ای بکس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

اس پروگرام میں مختصر کورس، بنیادی کورس، اور کامل سارے ہیں تاہم میری تجویز یہ ہے کہ شارت کورس سے شروع کریں اور ویدیو کے ذریعہ سے سبق لینا شروع کریں۔ نوٹس لینے، مزید ہوم ورک کرنے اور گرامر کے سیکھنے گئے اصول کے مطابق نئے نئے الفاظ سے پریکش کرنے کی عادت سے، سیکھنے کا عمل بہت تیزی سے کمل ہو گا۔ آپ کے پیچے جو صرف انگریزی جانتے ہیں۔ ان کے لئے بھی یہ اتنا ہی مفید ہے۔ ویدیو کے بعد پاور پوائنٹ پر دی گئی آزمائش کے ذریعہ آپ اپنا نیٹ ٹریننگ کو خود لے سکتے ہیں۔ اس کورس کے محقق، ذیر ائزر، پروڈیوسر اور استاذ بھارت کے ذاکر عبد العزیز عبدالرحیم ہیں۔ ان کا تعلیمی پیس منظر میکینکل انجینئرنگ کا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس مقصد کے لئے لگا رکھی ہے اور عربی زبان سیکھنے کو اتنا آسان، اتنا خوبصورت اور اتنا پر کشش بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا بھی نہ تھا۔

عیسیٰ مغل اب چکلی بجاتے ہی عربی سکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعہ اب دور دراز کے طلباء کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ان کی اپنی بھی ایک ویب سائٹ ہے www.subulassalam.com جس میں انہوں نے عربی زبان سیکھنے کے لئے تمام ممکن ذرائع اسکھنے کر رکھے ہیں۔ اب وہ خود ذاکر عبد العزیز عبدالرحیم کے کورس کو پڑھا رہے ہیں۔

(۱۰) قرآنی تراجم و تفاسیر اور علوم القرآن پر احصم ویب سائنس
قرآنی سورتوں کی روایتی اور حروفِ جنگی کے اعتبار سے ترتیب کا جائزہ لینے کے لئے درج ذیل سائنس کو ملاحظہ فرمائیں:

[http:// www.wam.umd.edu/ibrahim/quran](http://www.wam.umd.edu/ibrahim/quran)

اسی سائنس پر آپ سورتوں کے نمبر شمار اور ہر سورت میں موجود آیتوں کی تعداد کو جدول کی شکل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں یوں آپ کے لئے سورتوں اور ان کی آیات تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع سے منابع رکھنے والی آیات کا مشاہدہ کریں تو درج ذیل ویب سائنس آپ کے لئے مناسب رہے گی۔

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/quraniq_inedx.html

اس سائنس پر انگریزی زبان کے حروفِ جنگی کے مطابق مختلف موضوعات درج ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کسی خاص موضوع کا انتخاب کرنا ہو گا مثلاً اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ قرآن میں تحریری معابرے سے متعلق آیات تلاش کریں تو سب سے پہلے آپ کو موضوع "CONTRACT" کا انتخاب کرنا ہو گا پھر اس اصلی موضوعات کے ضمنی موضوعات ظاہر ہوں گے مثلاً "Contract" کے تحت موضوع "WRITTEN , CONTRACT" ظاہر ہو جائے گا۔ اب جب آپ مطلوبہ ضمنی موضوع کا انتخاب کر لیں گے تو اس موضوع کے تحت موجود آیات کے سورہ نمبر اور آیات نمبر سامنے آجائیں گے مثلاً درج بالا موضوع کے تحت نمبر 2:282 ظاہر ہو گا جس کا معنی ہو گا کہ سورہ نمبر 2 کی 282 دیں آیت۔ جب آپ اس آیت نمبر کا انتخاب کریں گے تو اس آیت کے انگریزی کے تین ترجمے ظاہر ہوں گے جو کہ عبد اللہ ہوسف علی، پکھال اور شاکر کے تراجم ہیں۔ اب آپ اپنی مطلوبہ آیت کے ان تین ترجمے کے درمیان موازنہ کر سکیں گے۔

ہر قرآنی سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح ہر سورت کی ایک خاص اہمیت ہے

اور اسی کے مطابق بعض موضوعات اس سورت میں بیان کئے جاتے ہیں۔ جناب مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کا تحریر کردہ سورتوں کے بارے میں تعارف کا انگریزی ترجمہ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے درج ذیل ویب سائٹ پر ملاحظہ کیجئے:

<http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi>

قرآنی سورتوں کا یہ تعارف دراصل مولا نا مودودی کی تھیم القرآن سے لیا گیا ہے یاد رہے کہ انٹرنیٹ پر پوری تھیم القرآن موجود نہیں ہے بلکہ صرف سورتوں کا تعارف موجود ہے۔
قرآن اور سائنس پر چند لمحپ مقالات کے حصوں کے لئے ملاحظہ کیجئے:

<http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/dyktb.html>

درج بالا سائٹ پر موجود مقالات جناب محمد تھلوی کے تحریر کردہ ہیں۔ جناب محمد عبداللہ
باقر آن اور سائنس پر موجود مقالہ درج ذیل سائٹ سے لیا جاسکتا ہے:

<http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scis/am/html>

اگر آپ چاہتے ہیں کہ تو دین قرآن کی مختصر تاریخ پر کوئی مقالہ حاصل کریں تو آپ کو درج ذیل سائٹ پر چانا ہوگا

http://www.usc.edu/dept.MSA.quran.compilation_brief.html-1

دنیا کی زبانوں (انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، اور جرمن) میں قرآنی الفاظ کی تلاشی
کا کام درج ذیل سائٹ پر جا کر کیا جاسکتا ہے:

<http://www.orst.edu/group/msa/quran/search.html-2>

اس مضمون کے پہلے حصے میں ہم نے قرآنی آپات کی عربی عبارت کے حصوں کے
حوالے سے ایک ویب سائٹ کا تعارف کروایا تھا:

<http://www.wam.and.edu/sirt/Quran.htm>

اس ایڈریس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ اور ویب سائٹس کا تعارف کروارہے ہیں جہاں
سے آپ پورے قرآن کی عربی بحارت حاصل کر سکتے ہیں ایک ایڈریس درج ذیل ہیں۔

<http://almnar.org/qllqa.html>

اس ایڈریس کے علاوہ ایک اور ایڈریس پر بھی جا کر عربی عبارت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو خوبصورتی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوا یہ ریس یہ ہے۔

<http://www.unn.ac.uk/souieties/Islamic/quran/alindex.html>

اس ویب سائٹ پر قرآنی عبارت کے علاوہ آپ عبد اللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمے کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔

قرآن کی آیات کا عربی متن ڈاکٹر قیم الدین الحلاجی اور ڈاکٹر محمد خان کے گے قرآنی ترجم کے مشاہدے کے لئے آپ کو درج ذیل سائٹ پر جانا ہوگا۔

<http://www.unn.ac.uk/societies/islamic/quran>

تجوید قرآن سیکھنے کے لئے ہم آپ کی خدمت میں دو ویب سائٹس کا تعارف کروارہے ہیں۔ یہ سائٹ عربی زبان میں ہے اور تجوید سیکھنے کے لئے نہایت مناسب ہے:

<http://www.duke.edu/maaz/tajweed/taq.html>

http://www.us.syr.edu/mutawa/tajweed_tajweed/taq.html

بخاری و مالکی میزان جنوری ۱۹۹۸ء

اس سے قبل بھی آپ ہمارے ساتھ دو شاروں میں ویب سائٹ پر دو مضمونیں مطالعہ کر چکے ہیں، ایک مضمون : Fake and Genuine Islamic Websites جلد ۲، شمارہ تین ص ۳۶، شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر فرجت کا مضمون جلد نمبر ۱، شمارہ نمبر ۲، صفحہ نمبر ۷۴ اپر شائع ہو چکا ہے۔




إِنَّا نَذِّلُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ الْأَنَعِيْدِ وَنَنْهَا مِنْ أَنْ تَرَوْنَا وَلَا شَكُونَا (سورة الرهيل: ٩)

بِهِمْ کو اپنے لئے کمالتے ہیں دن تم سے مجاہدین کے خاتمی مدد ہیں دنگری کے


خدر مرت خلق و رفاه عالمگی الہمیت

سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں



مصنف

پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی



مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان علامہ شیعیہ احمد عثمانی